

ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ^{cases/matters} بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ ^{accept} بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا کچرا قرار دیا جا سکتا ہے۔ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ اس کے چھلکوں کو ڈھنگ سے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماحول کی غلاظت بڑھتی ہے

QNO7: Translation

Every era brings such matters with it that no one like, but must have to accept.

Some time nature put something in front of us for the sake of test/try that are meaningless & does not relate to us but still has to be a part of our life. Still it is happening. Every century brings such changes with itself that never had in comparison with the previous centuries.

The development of natural sciences & arts has given a lot to human which can be called wastage of academic & economic activity. Nature gives fruit, at the same time it binds to dispose of its cover/skin properly. If it has not done then the pollution of the environment increases.

Q: Write a précis of the following passage in about 100 words and suggest the title: (20+5)

The man, for instance, who, having wealth, is yet lacking in refinement of mind, who has no education by which he may understand and enjoy the beauties of literature, art and nature, can only use his money for the gratification or sexual appetites and be, therefore, not all-powerful. Any power he may have is the power of a brute which works for destruction rather edification. On the other hand is the man of trained intellect, the man whose soul has been open to the noble influences around him, who has treasured up not gold but a store of precious learning. He looks calmly upon the world around him, scorns its follies and despises its so-called pleasures. He has within himself a source of intellectual joy in contemplation of the mysteries and problems of the world and its history. He is the Man of Power before whom the Man of Gold must bow down in homage as to a king. Carlyle, in his study, living with his wife on an income of \$100 per annum, but sending forth living words to stir the hearts of his countrymen, was more powerful than an American Millionaire, or any other whose money was used merely for perishable things of the world.

Precis

The illiterate man doesn't understand the glances of literature, art, or science. His strength can cause more destruction than improvement. While the educated man had a treasure of knowledge. He notices the world from a different perspective. He is a source of mysteries & the Man of Power. Carlyle, an educated person who inspired the confidence of their countrymen, was more helpful than an American millionaire.

Title = knowledge
is more powerful than
anything.

Total word = 207

Precis word = 66